

۲۴. اور حرام کی گئی شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آجائیں اللہ تعالیٰ نے احکام تم پر فرض کر دیئے ہیں، ان عورتوں کے سواء اور عورتیں تمہارے لئے حلال کی گئیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو بڑے کام سے بچنے کے لئے نہ کہ شہوت رانی کے لئے، اس لئے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو اور مہر مقرر ہونے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں، بیشک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔

۲۵. اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لو اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی ہو اس لئے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو، وہ پاک دامن ہوں نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آجائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے، کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔

۲۶. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔

الجزء ۵  
الجزء ۹

۲۴. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

اور جو شادی شدہ ہیں میں سے عورتوں مگر وہ جنے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا

لکھی ہوئی بات ہے اللہ کی۔ تم پر اور حلال کیا گیا تمہارے لئے جو ان کے علاوہ بیس یہ اس لئے کہ یہ کہ تلاش کرو تم

بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

اپنے مالوں کے ساتھ قید نکاح میں لانے والے نہ بدکاری کرنے والے توجو تم فائدہ اٹھاؤ اس کے ساتھ

مِنْهُنَّ فَمَا تَوْهُنَ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

ان عورتوں سے تودے دو انکو مہر ان کے بطور فرض اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس معاملہ میں جو

تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

بم رضا مند ہونے کے بعد مہر بیشک اللہ ہے جاننے والا ہے

حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ

حکمت والا ہے ۲۴ اور جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو تم میں سے قدرت - فراخی کہ وہ نکاح کرے

الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ

عورتوں سے جو آزاد ہیں - جو ایمان والیاں ہیں تو اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ میں سے

فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ

تمہاری لونڈیاں جو ایمان والیاں ہیں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے تم میں سے بعض

مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

سے بعض ہیں تو نکاح کر لو ان سے ساتھ ان کے ان کے اہل کے اور دو انکو ان کے مہر

بِالْمَعْرُوفِ الْمُحْصَنَاتِ غَيْرِ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ

ساتھ معروف کے وہ پاک دامن ہوں اور نہ بدکاریاں کرنے والیاں اور نہ بننے والیاں

أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنْتُمْ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ

چھ دوست توجب قید نکاح میں لانی جائیں پھر اگر وہ آئیں کسی بے حیائی کو تو ان پر ہے آدھی (سزا)

مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ

وہ جو اوپر پاک دامن عورتوں کے ہے عذاب میں یہ ایسا کرنا واسطے اس ڈرے گناہ سے

مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

تم میں سے تم صبر کرو اور تمہارے لئے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

﴿٢٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ

۲۵ چاہتا ہے اللہ بیان کرے تمہارے لئے اور اور رہنمائی کرے تمہاری طریقوں کی ان لوگوں کے

مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

سے جو تم (سے) پہلے تھے اور مہربان ہو تم پر اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے ۲۶

۲۷. اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور پٹ جاؤ۔

۲۸. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا ہوا ہے۔

۲۹. اے ایمان والو! اپنے آپس کے مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہمو خرید و فروخت اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔

۳۰. اور جو شخص یہ (نافرمانیاں) سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

۳۱. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔

۳۲. اور اس کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہرچیز کا جاننے والا ہے۔

۳۳. ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مریں اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لئے مقرر کر دیئے ہیں جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہرچیز پر حاضر ہے۔

وَاللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ

اور اللہ چاہتا ہے کہ مہربان ہو تم پر اور وہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں

الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ۙ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ

خوابشات کی خواہشات کی تم جھک جاؤ۔ تم مائل جاؤ۔ جھک جانا بڑا اللہ چاہتا ہے کہ بھلا کر دے

عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ۙ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

تم سے اور پیدا کیا گیا انسان کمزور اے لوگو جو ایمان لائے ہو

لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

نہ تم کھاؤ اپنے مال میں باطل طریقے سے مگر یہ کہ ہو

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ

تجارت سے باہم رضامندی تمہاری طرف سے اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو بیشک

اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۙ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا

اللہ ہے تم پر رحم کرنے والا اور جو کوئی کرے گا یہ۔ ایسا زیادتی کرنے کے لیے

وظُلْمًا فَسَوْفَ نُنْصِلُهٗ نَارًا وَّكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ

اور یا ظلم (کرنے کے لیے) پس عنقریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں اور ہے یہ۔ ایسا کرنا پر اللہ

يَسِيْرًا ۙ اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفِرْ

آسان اگر تم اجتناب کرو۔ تم بچو بڑے بڑے گناہوں سے جو تم روکے جاتے ہو اس سے ہم دور کر دیں گے

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مَّدْخَلًا كَرِيْمًا ۙ

تم سے تمہاری برائیوں اور ہم داخل کریں گے تم کو داخل کرنے کی جگہ عزت والی

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِۦٓ بَعْضَكُمْ عَلٰٓى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ

اور نہ تم تمنا کرو اس کی فضیلت ہی اللہ نے اس کے ساتھ تم میں سے بعض کو پر بعض اس مردوں کے لیے

نَضِيْبٍ مِّمَّا اَكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَضِيْبٍ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ

ایک حصہ ہے اس میں انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں انہوں نے کمایا

وَسَّأَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖٓ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل بیشک اللہ ہے اور عورتوں کے لیے

عَلِيْمًا ۙ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

جاننے والا اور واسطے ہر ایک کے بنا دیے ہم نے وارث۔ مقدار اس سے جو چھوڑ جائیں والدین

وَالْاَقْرَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاَتُوْهُمْ

اور رشتہ دار اور وہ لوگ گرہ باندھی تمہارے دائیں ہاتھ نے پس دو تم ان کو

نَضِيْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰٓى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۙ

ان کا حصہ بیشک اللہ تعالیٰ ہے اوبر ہر چیز کے گواہ

۳۴. مرد عورت پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کئے ہیں، پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں یہ حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بیشک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔

۳۵. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا یقیناً پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔

۳۶. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسائے سے، اور پہلو کے ساتھی سے، اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں (غلام، کنیز)، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔

۳۷. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں ہم نے ان کافروں کے لئے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ بَعْضُ كَے اور اس سبب سے انہوں نے خرچ کیا میں سے اپنے مالوں پس نیک عورتیں (وہ بیبیں) جو فرماں بردار بیبیں حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ جَو حِفاظت کرنے والیاں غیب کے لئے ساتھ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے اور وہ عورتیں تم ڈرنے ہو نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ انکی سرکشی سے پس نصیحت کرو اور چھوڑ دو ان کو۔ اور علیحدہ کر دو ان کو میں بستروں میں وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اور مارو انکو پھر اگر وہ اطاعت کریں تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۴﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا بیشک اللہ ہے بلند بہت بڑا اور اگر ڈرو تم دشمنی سے۔ ان دونوں کے درمیان فَاذْعَبُوا حَكَامًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَامًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ نُو مقرر کرو ایک منصف سے اس مرد کے گھروالوں میں سے اور ایک منصف میں سے اس عورت کے گھروالوں اگر يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَه دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا موافقت پیدا کرے گا اللہ ان دونوں کے درمیان بیشک اللہ تعالیٰ ہے علم والا خَيْرًا ﴿۳۵﴾ \* وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا خبر رکھنے والا اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شریک نہراؤ ساتھ اس کے کسی چیز کو سَائِبِ كَيْفَ هِيَ

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور ساتھ رشتہ داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ اور پڑوسی والا قریب (رشتہ دار) اور ہمسائے اجنبی کے اور ساتھی پہلو کے وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿۳۶﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ نہیں محبت کرتا اس سے جو کوئی ہو اکرنے والا فخر کرنے والا اور لوگ جو بخل کرتے ہیں وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَاءً آتَاهُمُ اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا اور چھپاتے ہیں اسے جو دیا ان کو اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿۳۷﴾ اللہ تعالیٰ نے سے اپنے فضل اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لئے عذاب رسوا کرنے والا

۳۸. اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین ساتھی ہے۔

۳۹. بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔

۴۰. بیشک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔

۴۱. پس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔

۴۲. جس روز کافر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔

۴۳. اے ایمان والو! جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

۴۴. کیا تم نے نہیں دیکھا، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے ہٹک جاؤ۔

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھاوے کے لئے لوگوں کو اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر

وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ وَقَرِينًا فَسَاءَ

اور نہ دن پر آخرت کے اور جو کوئی شیطان اس کا ساتھی تو کتنا برا ہے

قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا

ساتھی ۴:۳۸ اور کیا ہے ان کو۔ ان پر اگر وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور خرچ کرتے ہیں

مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ

اس میں سے جو رزق دیا انکو اللہ نے اور ہے اللہ ساتھ انکے علم رکھنے والا ہے ۴:۳۹ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ

مقدار (برابر) ذرہ کے اور اگر ہو نیکی وہ دوگنا کرتا ہے اسکو اور دیتا ہے سے اس کے پاس

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

اجر بڑا ۴:۴۰ پھر کسی طرح ہوگا جب ہم لائیں گے سے ہر امت ایک گواہ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَ مَازِلُ الَّذِينَ

اور لائیں گے ہم آپ کو اور ان لوگوں کے گواہ بنا کر ۴:۴۱ جس دن آرزو کریں وہ لوگ

كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ

جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی کاش برابر کردی جائے ان پر زمین اور نہ وہ چھپا سکیں گے

اللَّهُ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ

اللہ سے کوئی بات ۴:۴۲ اے لوگو۔ جو ایمان لائے ہو نہ تم قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ ہو تم

سُكْرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي

نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو اور نہ ناپاکی میں مگر عبور کرنے والے

سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

راستہ کو یہاں تک کہ تم غسل کرلو اور اگر بیمار ہو یا اوپر سفر کے یا پائے

أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

کوئی ایک تم میں سے سے جلتے حاجت یا چھو تم عورتوں کو پہر نہ تم پاؤ پانی

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

تو تيمم کرو مٹی سے پاکیزہ پھر مسح کرو اپنے چہروں پہ اور اپنے ہاتھوں پہ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّن

بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا ہے ۴:۴۳ بخشنے والا ہے کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کی جو دے ایک حصہ میں سے

الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾

کتاب وہ خریدتے ہیں گمراہی اور وہ چاہتے ہیں کہ تم ہٹک جاؤ راستے سے ۴:۴۴

۴۵. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب

جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔

۴۶. بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ

سے پیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے اور ہماری رعایت کر (لیکن

اس کہنے میں) اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری

کی آپ سنئے ہمیں دیکھئے تو یہ ان کے لئے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر سے انہیں لعنت

کی ہے پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔

۴۷. اے اہل کتاب جو کچھ ہم نے نازل

فرمایا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں الٹا

کر پیٹھ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھجیے جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی اور ہے اللہ تعالیٰ کا کام کیا گیا۔

۴۸. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔

۴۹. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی

پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔

۵۰. دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ (حرکت) گناہ ہونے کے لئے کافی ہے

۵۱. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان

والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار ﴿۴۵﴾

مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ اَلْكَلِمَٰتَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا وَيَقُوْلُوْنَ

میں سے ان لوگوں جو یہودی ہوئے وہ تحریف کر دیتے ہیں کلمات کو سے اس کی جگہوں اور وہ کہتے ہیں

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرُ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لِيَّا بِالسِّنْتِ هُمْ

سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے اور سنو نہ سنوئے جاؤ اور رعنا موئے ابنی زبانوں کو

وَطَعْنَا فِي الدِّيْنِ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَسْمَعُ وَاَنْظُرْنَا

اور طعنہ زنی کرتے میں دین اور اگر بیشک وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور اطاعت تمہاری ہم نے دیکھتے ہم کو

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقَوْمَ وَلٰكِن لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ

البتہ ہوتا بہتر اچھا ان کے لئے اور زیادہ درست لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے پس نہ وہ ایمان لائیں گے

اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٤٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتُوْا اَلْكِتٰبَ ؕ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا

مگر تھوڑے ﴿۴۶﴾ اے لوگو جو دینے کے ہو مگر نبیوں کے ساتھ اس اتاری ہم نے

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نُّظْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُّدَّهَا

تصدیق کرنے والی ہے تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں چہروں کو پھر ہم پھیر دیں ان کو

عَلٰى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ وَكَانَ اَمْرُ

بر ان کی بینہوں یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ لعنت کی ہم نے والوں پر بھقے اور ہے حکم

اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٤٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ

اللہ کا کیا ہوا طے شدہ ﴿۴۷﴾ بیشک اللہ نہیں بخشے گا کہ شریک کیا جائے اس کے اور بخش دے گا جو علاوہ ہے

ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰٓءَ اِثْمًا عَظِيْمًا

اس کے واسطے وہ چاہے اور جو کوئی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ تو تحقیق اس نے گھڑ لیا گناہ بڑا

﴿٤٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزُوْنُ اَنْفُسَهُمْ بِاللّٰهِ يَزِيْغِيْ مَنْ يَشَاءُ

﴿۴۸﴾ کیا نہیں تمہارے کی طرف ان لوگوں جو پاک اپنے نفسوں کو بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو جانتا ہے

وَلَا يُظَلَمُوْنَ فَتِيْلًا ﴿٤٩﴾ اَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ اَلْكَذِبُ

اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر ﴿۴۹﴾ دیکھئے کس طرح وہ گھڑتے ہیں پر اللہ جھوٹ

وَكَفٰى بِهِ ؕ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٠﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰتُوْا نَصِيْبًا

اور کافی ہے اس کے گناہ کھلم کھلا ﴿۵۰﴾ کیا تمہارے کی طرف ان لوگوں کے جو دے گئے ایک حصہ

مِّنَ اَلْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْحُبَّتِ وَالطَّلٰغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ

میں سے کتاب وہ ایمان لائے جبت پر اور طاغوت پر اور وہ کہتے ہیں

لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنْ الَّذِيْنَ ؕ اٰمِنُوْا سَبِيْلًا ﴿٥١﴾

ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں (یہ) ان لوگوں جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے ﴿۵۱﴾

۵۲. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا

۵۳. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں۔

۵۴. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی۔

۵۵. پھر ان میں سے بعض نے اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔

۵۶. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کہالیں پک جائیں گی ہم ان کے سواء اور کہالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

۵۷. اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کئے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لئے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں (اور پوری راحت) میں لے جائیں گے۔

۵۸. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے۔

۵۹. اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمانبرداری کرو (رسول اللہ علیہ و سلم) کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز پر اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۵۲

یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ نے اور جس پر لعنت کر دے اللہ تو ہرگز تم پاؤ گے اس کے کوئی مددگار

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۵۳

کیا ان کے لئے ایک حصہ ہے میں سے بادشاہت تو تب نہیں وہ دیں گے لوگوں کو تل برابر

يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَاءِ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۵۴

حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر اس کے دیا انکو اللہ نے میں سے اپنے فضل تو تحقیق دی ہم نے

أَلِ إِبْرَاهِيمَ كُو ۖ كِتَاب ۖ اُور حِكْمَت ۖ اُور دِی ہِم نَے اُد شَابِت ۖ بَرِی

فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَعَنَّهُ ۗ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۵۵

تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اس کے اور ان میں سے کوئی رک گیا اس سے اور کافی ہے جہنم

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمَا نَضَجَتْ

بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیت کے ساتھ عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو آگ میں جب کہی پک جائیں گی

جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

کہالیں ان کی تبدیل کر دیں گے ہم ان کی کہالیں ان کے علاوہ تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب کو بیشک اللہ تعالیٰ ہے

عَزِيزًا حَكِيمًا ۵۶

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَلَمْ يَكُن فِيهَا

بَغَائِثٌ ۖ يُحِبُّونَ ۚ سَيُؤْتُونَ فِيهَا مِن ثَمَرِهِمْ حِينَ يَشَاءُونَ ۗ وَفِيهَا

أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَفِيهَا جَنَّاتٌ مِّن دُونِهَا يَدْخُلُونَ فِيهَا

مِنَ الْجِبَالِ مِنْ تَحْتِهَا يَنْزِلُونَ ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ أَنْهَارًا

مِنْ تَحْتِهَا يَنْزِلُونَ ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ

لِلَّهِمْ أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ

أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ

أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ

أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ

أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ أَنْهَارًا ۗ فِيهَا نَضْرِبُ لِلَّهِمْ

5

۶۰. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا؟ جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں بھٹکا دے۔

۶۱. ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔

۶۲. پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا

۶۳. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بہید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہئے اور انہیں وہ بات کہئے جو ان کے دلوں میں گہر کرنے والی ہو۔

۶۴. ہم نے ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔

۶۵. سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔

الْمَرَّةِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ

کیا تم نے ان لوگوں کی طرف زعم رکھتے ہیں بیشک وہ ایمان لائے ساتھ اس نازل کیا گیا تیری طرف نہیں دیکھا

وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

اور جو نازل کیا گیا تجھ سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے جائیں طرف طاغوت کے

وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ

اور تحقیق وہ حکم دئے گئے گمراہی میں کہ وہ کفر کریں اس کا اور چاہتا ہے شیطان کہ بھٹکا دے انکو

ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ

گمراہی میں دور کی ۶۰: اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ طرف اس کے نازل کی

اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ

اللہ نے اور طرف رسول کے تم دیکھو گے منافقین کو وہ رکھے ہیں تجھ سے

صُدُّوًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا

رک جانا ۶۱: تو کسی طرح جب پہنچتی ہو ان کو کوئی مصیبت کے بوجھ اس کے

قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا

آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے پھر آجاتے ہیں قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی۔ بخدا نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر تیرے پاس

إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا

احسان کا اور باہم موافقت کا ۶۲: یہی وہ لوگ ہیں جانتا ہے اللہ جو

فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي

میں ان کے دلوں تو آپ اعراض برتیں ان سے ان سے اور نصیحت کیجئے ان کو اور کچھ دیجئے ان کے لئے ان کے

أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا

فسوں میں بات پہنچنے والی ۶۳: اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر

لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

تاکہ اطاعت کیا جائے اذن کے ساتھ اللہ کے اور اگر بیشک وہ واقعی وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر

جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ

آجاتے تیرے پاس پھر بخشش مانگتے اللہ سے اور بخشش مانگتا ان کے لئے رسول

لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

البتہ پائے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان ۶۴: پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی نہیں مومن ہو سکتے

حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

یہاں تک کہ وہ منصف بنائیں تجھ کو اس معاملہ میں جو اختلاف ہوا ان کے درمیان پھر نہ وہ پائیں میں

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

اپنے نفسوں میں کوئی تنگی سے جو آپ نے فیصلہ کیا اور وہ مان لیں بوری طرح مان جانا ۶۵:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ

اور اگر ہمیشک ہم لکھتے ان پر کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو یا نکلو۔ نکل جاؤ اس سے

دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ

تہماری گہروں نہ وہ کرتے اس کو مگر تھوڑے ان میں سے اور اگر ہمیشک وہ جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں

بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثِيْبًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِيَنَّهُمْ

ساتھ البتہ ہوتا بہتر ان کے لئے اور زیادہ شدید ثابت رکھنے میں ۶۶ اور تب البتہ ہم دینے ان کو

مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

سے اپنے پاس اجر عظیم ۶۷ اور البتہ ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو

﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

۶۸ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی تو یہی لوگ ساتھ ان لوگوں کے انعام فرمایا اللہ نے

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِينَ وَالشّٰهِدَاءِ وَالصّٰلِحِينَ

جن پر میں سے نبیوں اور صدیقین اور شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے

وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ

اور کتنا اچھے ہیں یہ سب لوگ دوست ۶۹ یہ فضل ہے اللہ کی اور کافی ہے

بِاللَّهِ عِلْمًا ﴿٧٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ

اللہ علم والا ۷۰ اے لوگو جو ایمان لاتے ہو بکڑلو بجاؤ اپنا

فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيَبْطِئَنَّ

پھر نکلو دستوں میں۔ یا نکلو سارے کے سارے ۷۱ اور بیشک تم میں سے البتہ کوئی جو دیکھتے کا

فَإِنْ أَصَبْتُمْ مَّصِيبَةً قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ

پہرا کر پہنچے تم کو کوئی مصیبت کہتا ہے تحقیق انعام فرمایا اللہ نے مجھ پر جبکہ نہ میں تھا

مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن

ان کے ساتھ حاضر ۷۲ اور البتہ اگر پہنچے تم کو کوئی فضل ہے اللہ کی البتہ ضرور کہے گا گویا کہ

لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَمَوَدَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كُنْتُمْ مَعَهُمْ

نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت ہائے افسوس مجھ پر میں ہوتا ان کے ساتھ

فَأَفْزُفُوا فَفُوزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ فَلَیْقَتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

نومیں کامیابی پاتا کامیابی بڑی ۷۳ پس چاہیے کہ جنگ کریں میں راستے اللہ کے وہ لوگ

يَشْرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ

جو بیچنے ہیں زندگی دنیا کی آخرت کے بدلے میں اور جو کوئی جنگ کرے گا میں راہ میں

اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

اللہ کے پھر قتل کیا جائے یا غالب آجائے پس عنقریب ہم دیں گے اس کو اجر بڑا ۷۴

۶۶. اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو! یا اپنے گہروں سے نکل جاؤ! تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ حکم بجا لاتے اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لئے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہو۔

۶۷. اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں۔

۶۸. اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔

۶۹. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔

۷۰. یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔

۷۱. اے مسلمانو! اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو۔

۷۲. اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔

۷۳. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش! میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔

۷۴. پس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آجائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کرتے ہیں۔



۷۵. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لئے جہاد نہ کرو؟ جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لئے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا

۷۶. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو یقین مانو کہ شیطانی حیلہ (بالکل بودا اور) سخت کمزور ہے۔

۷۷. کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب! تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا؟- آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لئے تو آخرت ہی بہتر ہے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔

۷۸. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑے گی گو تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے، انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں۔

۷۹. تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

اور کیا ہے تم کو نہیں تم جنگ کرتے ہو میں کے راستے میں اللہ اور کمزور سمجھے گئے۔ بے بس سمجھے گئے میں سے مردوں

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب نکال ہم کو سے اس بستی

الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

ظالم ہیں اس کے رہنے والے اور بنادے ہمارے پاس سے اپنے حامی اور بنا دے ہمارے سے تمہارے پاس کوئی مددگار

الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي

۷۵ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں میں راستے اللہ کے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں میں

سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَاقْتُلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ

راستے طاغوت کے پس جنگ کرو دوستوں سے شیطان کے بیشک چال شیطان کی

كَانَ ضَعِيفًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كَفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا

۷۶ کمزور ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہا گیا ان سے روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو

الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَمَا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ

نماز اور دو تو زکوٰۃ توجب فرض کیا گیا ان پر جنگ کرنا تب ایک گروہ ان میں سے

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ

ڈرنا تھا لوگوں سے مانند ڈرنے کے اللہ سے یا زیادہ ڈرنا اور انہوں نے کہا ہمارے کیوں تو نے فرض کیا

عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

ہم پر جنگ کرنا کیوں نہ تو نے مہلت تک وقت قریب کے کہہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۗ أَيْنَمَا تَكُونُوا

اور آخرت بہتر ہے اس کے واسطے جو تقویٰ اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر ۷۷ جہاں کہیں تم ہو گے

يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصَبِّهُمُ حَسَنَةٌ

بلے گی تم کو موت اور اگرچہ ہو تم میں قلعوں پختہ۔ مضبوط اور اگر پہنچتی ہے انکو کوئی بھلائی

يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصَبِّهُمُ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ

وہ کہتے ہیں یہ سے ہے طرف اللہ کی اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت وہ کہتے ہیں یہ سے

عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

تیری طرف سے کہہ سب کا سے طرف سے ہے اللہ کی تو کیا ہے اس قوم کو نہیں قریب ہوئے کہ سمجھیں

حَدِيثًا ۗ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ

۷۸ بات کوئی جو پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھلائی طرف اللہ کی اور جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی برائی

فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۗ

۷۹ طرف سے ہے تو تیرے نفس کی اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر اور کافی ہے اللہ گواہ

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ

جو اطاعت کرتا ہے رسول کی تو تحقیق اس سے اطاعت کی اللہ کی اور جو منہ موڑ جائے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو

عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۸۰ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ

ان پر نگران بنا کر اور وہ کہتے ہیں اطاعت (کریں گے) پھر جب وہ نکلتے ہیں سے تیرے پاس

بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ

رات مشورے کرنا ایک گروہ ان میں سے سوئے اس چیز کے جو تم کہتے ہو اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے سے رات گزارتا ہے

فَاعْرُضْ عَنْهُمْ وَعَتَوْكَ عَلَىٰ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

پس اعراض برتنے ان سے اور بھروسہ کریں بر اللہ اور کافی ہے اللہ کارساز

۸۱ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

۸۱ کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں اور اگر وہ ہوتا ہے طرف سے علاوہ اللہ کے

لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۸۲ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ

البتہ وہ پاتے اس میں اختلاف بہت زیادہ اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی امر، میں سے امن

أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ

یا خوف میں سے مشہور کر دیتے اس کو اور اگر لوٹاتے اس کو طرف رسول کے اور طرف اولی الامر کے

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

ان میں سے البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو استنباط کر سکتے ہیں اس کا ان میں سے اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۸۳

تم پر اور اس کی رحمت البتہ پیروی کرتے تم شیطان کی مگر تھوڑے

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ

تو جنگ کرو میں راہ اللہ کی نہیں تم مکلف مگر اپنی جان کے اور ابھاریے مومنوں کو

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا

امید ہے کہ اللہ کہ روک دے زور ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اور اللہ شدید ہے طاقت میں

وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۸۴ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ

اور زیادہ سخت ہے عبرت ناک سزا میں جو کوئی سفارش کرے گا سفارش اچھی ہوگا اس کے

نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ وَكُفْلٌ مِّنْهَا

ایک حصہ اس میں سے اور جو کوئی سفارش کرے گا سفارش بری ہوگا اس کے ایک حصہ اس میں سے

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۸۵ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا

اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے حاضر۔ نگران اور جب دعا دیے جاؤ تم زندگی کی دعا تو تم بھی دعا دو

بِأَحْسَنِ مَنَاسِبِهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۸۶

سائے اچھے طریقے سے یا لوٹا دو اس کو بیشک اللہ تعالیٰ ہے اوپر اوپر چیز کے حساب لینے والا

۸۶

۸۶

۸۰. اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی

جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

۸۱. یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت، جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔

۸۲. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بھی کچھ اختلاف پاتے۔

۸۳. جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔

۸۴. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہ، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہ، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی زور کو روک دے اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔

۸۵. جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لئے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

۸۶. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔

۸۷. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے (آنے) میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔

۸۸. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ منافقوں میں دو

گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کئے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو، جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا

۸۹. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے

کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو، اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔

۹۰. سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے

ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے، پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔

۹۱. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے

جن کی (بظاہر) چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں۔ اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دئے جاتے ہیں پس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ

اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن کے قیامت کے نہیں کوئی شک اس میں

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾ \* فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ

اور کون زیادہ سچا ہے سے بڑھ کر اللہ بات میں ۸۷: \* تو کیا ہے تمہارے لئے میں بائیں منافقوں کے

فَعَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ

دو گروہ اور اللہ نے انہیں بے پروا کر دیا ان کو بوجھ اس کے جو انہوں نے کماٹی کی کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو جس کو

أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ

گمراہ کر دیا اللہ نے اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو ہرگز تم پاؤ گے اس کے کوئی راستہ ۸۸: وہ چاہتے ہیں کاش تم کفر کرو

كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ

جیسا کہ انہوں نے کفر کیا تو تم سب بوجھاؤ برابر تونہ تم بناؤ ان میں سے دوست یہاں تک کہ

يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

وہ ہجرت کر جائیں میں راستہ اللہ کے پھر اگر چاہیں وہ منہ موز تو پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں

وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَّوَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ

پاؤ تم ان کو اور نہ تم بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ۸۹: مگر وہ لوگ

يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ

جو بنواہ لیں کی طرف ایسی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے یا آئیں وہ تمہارے پاس تنگ ہونے

صُدُّوهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

سینے ان کے کہ وہ جنگ کریں تم سے یا وہ جنگ کریں اپنی قوم سے اور اگر چاہتا اللہ

لَسَاطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَذَلُّواكُمْ وَإِنْ أَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ

البتہ مسلط کر دیتا ان کو تم پر پس البتہ وہ لڑتے تم سے پھر وہ اگر ایک طرف بوجھائیں تم سے پھر نہ وہ جنگ کریں تم سے

وَأَقْوَامًا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

اور وہ ڈالیں تمہاری طرف سلام تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راستہ ۹۰:

سَتَجِدُونََ الْآخِرِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا وَيَأْمُنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ

عنقریب تم پاؤ گے کچھ دوسرے لوگوں کو کہ وہ امن سے رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے جب کہیں

مَارِدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا

جب لوٹائے وہ فتنہ کی طرف فتنہ کی لئے لوٹا دیے گئے اس میں پھر اگر نہ وہ چھوڑیں تم کو اور نہ اور نہ ڈالیں

إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ

تمہاری طرف سلامتی۔ صلح اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو تو پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں

تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

تم پاؤ ان کو اور یہی لوگ بنایا ہم نے تمہارے لئے ان کے خلاف حجت۔ دلیل کہلی ۹۱:

۹۲. کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے (تو اور بات ہے) جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرانا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرانی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمانے تو خون بہا لازم ہے، جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا بھی ضروری ہے، پس جو نہ پائے اس کے ذمے لگاتار دو مہینے کے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لئے اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

۹۳. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۹۴. اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا لہذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے

باخبر ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ

اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر خطا سے اور جو کوئی قتل کرے

مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ

کسی مومن کو خطا سے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن مومن کا اور خون بہا جو سپرد کیا گیا۔ جو سپرد کیا جائے

إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ

طرف اس کے اہل کے مگر۔ یہ کہ وہ صدقہ کر دیں پھر اگر ہے سے قوم سے دشمن

لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ

تمہارا اور وہ مومن ہے تو آزاد کرنا ہوگا ایک گردن مومن اور اگر ہے

مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ

سے ایک قوم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان پختہ عہد ہے تو خون بہا سپرد کیا ہوا طرف

أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ

اس کے اہل کے اور آزاد کرنا ہے ایک گردن کا مومن تو جو نہ پائے پس روزے رکھنا

شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ

دو ماہ مسلسل یہ مہربانی ہے طرف سے اللہ کی اور ہے اللہ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

علم والا حکمت والا ۹۲ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر

فَجَزَاءُ لَهُ وَجْهَهُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

تو جزا ہے اس کی جہنم ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں اور غضب ناک ہوا اللہ اس پر

وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَأَعَدَّ لَهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اور اس نے لعنت کی اس پر اور اس نے تیار کیا اس کے عذاب بڑا ۹۳ اے لوگو جو

ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا

ایمان لائے ہو جب سفر کرو تم میں کے راستے اللہ کے تو تحقیق کر لیا کرو اور نہ تم کہو

لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَاتٍ تَبْتَغُونَ

ذالے تمہاری طرف سلام نہیں ہو تم مومن تم تلاش کرتے ہو

عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ

سامان زندگی کا دنیا کی پاس ہیں اللہ کے غنیمتیں بہت سی

كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ بَلَغَ عَلَيْكُمْ

اسی طرح تھے تم اس سے پہلے تو احسان کیا اللہ نے تم پر

فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾

تو تحقیق کر لیا کرو بیشک اللہ ہے کے ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ۹۴

۹۵. اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔

۹۶. اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

۹۷. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔

۹۸. مگر جو مرد عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی کا چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راست کا علم ہے۔

۹۹. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔

۱۰۰. جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آپکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۰۱. جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ

نہیں برابر ہوسکتے بیٹھے والے میں سے مومنوں سوائے معذوروں کے اور جہاد کرنے والے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ

میں راستہ اللہ کے اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں سے

وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ

اور اپنے نفسوں سے ہر بیٹھے والوں درجہ میں اور ہر وعدہ اللہ نے بہلائی کا اور فضیلت دی اللہ نے

الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً

مجاہدوں کو اور بیٹھے والوں کے اجر عظیم ۹۵ درجات ہیں اس کی اور بخشش ہے

وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ ۹۶ ۙ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ

اور رحمت ہے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان ۹۶ بيشك وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے

ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ

(اس حال میں اپنی جانوں پر وہ کہتے ہیں کس میں تھے تم وہ کہتے تھے ہم کمزور - بے بس - مجبور میں زمین

قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ

وہ کہتے ہیں کیا نہیں زمین اللہ کی وسیع - فراخ کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں تو یہی لوگ ٹھکانہ ان کا

جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۙ ۹۷ ۙ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ

جہنم ہے اور کتنا برا ہے ٹھکانہ ۹۷ سوائے ان کے جو مجبور کردیے گئے میں سے مردوں

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَيْسْتَ تَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۙ ۹۸ ۙ

اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے نہیں استطاعت رکھتے کسی حیلے کی اور نہ وہ باتے کوئی راستہ ۹۸

فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ \* وَمَنْ

تو یہی لوگ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ معاف کرے ان کو اور ہے اللہ تعالیٰ معاف بخشنے فرمانے والا ۹۹ اور جو کوئی

يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَٰغِمًا كَثِيرًا وَسِعَةً وَمَنْ

ہجرت کرے گا میں راستہ اللہ کے باتے گا میں زمین جاتے پناہ بہت سی اور وسعت اور جو کوئی

يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ

نکلے گا سے اپنے گھر ہجرت کرتے ہوئے طرف اللہ کے اور اس کے رسول کے پھر ہلے اس کو موت تو تحقیق

وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۙ ۱۰۰ ۙ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي

ثابت ہو گیا اجر اس کا ہر اللہ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان ۱۰۰ اور جب سفر کرو تم میں

الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ

زمین تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم کمی کرو میں سے نماز اگر خوف ہو تم کو

أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ الْكٰفِرِينَ كَانُوا أَلْمٰنًا ۙ ۱۰۱ ۙ

کہ دالین تم کو فتنے میں وہ لوگ کفر کیا جنہوں نے بے شک کافر ہیں تمہارے لئے دشمن کھلے ۱۰۱

۱۰۲. جب تم ان میں ہو اور ان کے لئے نماز کھڑی کرو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لئے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آجائیں اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آجائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بجاؤ اور اپنے ہتھیار لئے رہے، کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں، ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تکلیف ہو یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیمار ہو جانے کے اور اپنے بجاؤ کی چیزیں ساتھ لئے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھی ہے۔

۱۰۳. پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔

۱۰۴. ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو، جو امید انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔

۱۰۵. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو۔

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ

اور جب ہوں آپ ان میں تو قائم کریں آپ ان کے لئے نماز تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ

مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا

ان میں سے آپ کے ساتھ اور چاہیے کہ وہ رہیں اپنا اسلحہ پھر جب وہ سجدہ کریں پس چاہیے کہ ہو

مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا

سے تمہارے پیچھے اور چاہیے کہ آجائے ایک گروہ دوسرا نہیں انہوں نے نماز پڑھی پس چاہیے کہ نماز پڑھیں

مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ

آپ کے ساتھ چاہیے کہ لئے رہیں اپنا بجاؤ اور اپنا اسلحہ چاہیے کہ وہ لوگ

كَفَرُوا وَلَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

جنہوں نے کفر کیا کاش کہ تم غافل ہو جاؤ سے اپنے اسلحہ اور اپنے سازوسامان سے تو وہ جھپک پڑیں۔

عَلَيْكُمْ مِّمْلَةً وَجِدَّةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ

تم پر حملہ کرنا۔ ایک پیر بار۔ اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر ہے تم کو

أَذَىٰ مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

کوئی سے بارش یا ہونم بیمار یہ کہ تم رکھ دو اپنا اسلحہ

وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

اور لئے رہو اپنا بجاؤ بیشک اللہ اس نے تیار کیا کافروں کے لئے عذاب رسوا کن ۱۰۲

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُودًا وَعَلَىٰ

پھر جب پورا کر چکو تم نماز تو یاد کرو اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھتے ہوئے اوپر

جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ

اپنے پہلوؤں کے پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو قائم کرو نماز بیشک

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوقُوتًا ۝ وَلَا تَهْنُوا فِي

ہے ہر مومنوں پر فرض وقت کی پابندی کے ساتھ اور نہ تم ہستے کرو۔

أَبْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۝ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا

تعاقب گروہ کے اگر ہونم تکلیف اٹھاتے تو بیشک وہ وہ بھی تکلیف اٹھائے ہیں جیسا کہ

تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ

تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم امید رکھتے ہو سے اللہ جو نہیں وہ امید رکھتے اور ہے اللہ

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ

علم والا حکمت والا ۱۰۴ ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب ساتھ حق کے تاکہ توفیصلہ

بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

کے درمیان لوگوں کے ساتھ اس دکھایا تجھ کو اللہ نے اور نہ تم ہونا خیانت کرنے والوں کے لئے جھگڑا کرنے والا ۱۰۵

۱۰۶. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو! بیشک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔

۱۰۷. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔

۱۰۸. وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں (لیکن) اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔

۱۰۹. ہاں تو یہ تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا۔

۱۱۰. جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔

۱۱۱. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے

۱۱۲. اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کرے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔

۱۱۳. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ

کا تجھ پر فضل بڑا بھاری ہے۔

وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ

اور بخشش مانگو اللہ سے بیشک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان ۱۰۶: اور نہ تم جھگڑا کرو

عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ

ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے بیشک اللہ نہیں محبت رکھتا جو کوئی ہو

خَوَانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ

خیانت کار گناہ گار ۱۰۷: وہ چھپتے ہیں سے لوگوں اور نہیں وہ چھپ سکتے ہیں

مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ

سے اللہ اور وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کو مشورے اس کا نہیں وہ پسند کرتا ہے سے بات

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَآأَنْتُمْ هَآؤُلَآءِ

اور ہے اللہ اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ۱۰۸: ہاں تم وہ لوگ ہو

جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ

جھگڑا کرتے ان کی طرف سے میں زندگی دنیا کی تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ

دن قیامت کے یا کون ہوگا ان پر کارساز ۱۰۹: اور جو کوئی عمل کرے گا

سُوءًا أَوْ يَطْلِمَ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا

برا یا ظلم کرے گا اپنے نفس پر پھر بخشش مانگے گا اللہ سے پائے گا اللہ کو بخشنے والا

رَحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ

مہربان ۱۱۰: اور جو کوئی کھائے گا۔ کرے گا گناہ تو بیشک کھاتا ہے اس کو اوپر اپنی جان کے

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً

اور ہے اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ۱۱۱: اور جو کوئی کھائے گا۔ کرے گا خطا

أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

یا گناہ پھر بھرتے ہوئے اس کو بے گناہ پر تو تحقیق اس نے اتھایا بہتان اور گناہ کھلم کھلا

﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

۱۱۲: اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا آپ پر اور رحمت اس کی البتہ ارادہ کرتا ایک گروہ نے ان میں سے

أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ

کہ بھکا دیں آپ کو اور نہیں وہ بہکائے مگر اپنے نفسوں کو اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو

مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ

بھی کچھ اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھایا آپ کو

مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

جو نہ آپ تھے جانتے اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بہت بڑا ۱۱۳:

۱۱۴. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔

۱۱۵. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بڑی جگہ ہے۔

۱۱۶. اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

۱۱۷. یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔

۱۱۸. جسے اللہ نے لعنت کی ہے اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔

۱۱۹. اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں، سنو! جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔

۱۲۰. وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، اور سبز باغ دکھاتا رہے گا (مگر یاد رکھو!) شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔

۱۲۱. یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

نہیں کوئی بھلائی ان کی اکثر میں سے سرگوشیوں مگر جو حکم دے صدقہ کا

أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

یا نیکی کا یا اصلاح کا درمیان لوگوں کے اور جو کوئی کرے گا یہ کام

أَتْبَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَنْ

تلاش کرنے کو۔ رضا اللہ کی تو عنقریب ہم دیں گے اس کو اجر بڑا ﴿۱۱۴﴾ اور جو کوئی چاہے کو

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ

مخالفت کرے گا رسول کی اس کے بعد جو واضح ہوگئی اس کے ہدایت اور پیروی کے سوائے

سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ

راستے کے مومنوں کے ہم پھر دیں جدھر وہ پھر گیا اور ہم جہنم میں اور کتنا برا ہے

مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

نہکانہ۔ لونے کی جگہ ﴿۱۱۵﴾ بیشک اللہ نہیں بخشنے گا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گا جو علاوہ ہوگا

ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا

اس کے جس کے لئے وہ چاہے گا اور جو شریک نہرائے گا ساتھ اللہ کے تو تحقیق وہ بہتک گیا بہتکنا

بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ۖ إِلَّا اِنْتِثَاوَانِ يَدْعُونَ

دور کا ﴿۱۱۶﴾ نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو اور نہیں وہ پکارتے

إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخْذَنْ مِنْ

مگر شیطان کو سرکش ﴿۱۱۷﴾ لعنت کی اسے اللہ نے اور کہا اس نے البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا میں سے

عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيتْهُمْ ۗ

تیرے بندوں ایک حصہ طے شدہ۔ مقرر ﴿۱۱۸﴾ اور البتہ میں ضرور بہنکاؤں گا ان کو اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا ان کو

وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ ۗ أَاذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ

اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو پھر البتہ وہ ضرور کانیں گے کانوں جانوروں کے اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا ان کو

فَلْيَغْيِرْتَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن

پس البتہ وہ ضرور بدل دیں گے تخلیق کو اللہ کی اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو دوست سے

دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ

سوا اللہ کے تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا نقصان اٹھانا کہلم کہلا ﴿۱۱۹﴾ وہ وعدہ کرتا ہے ان سے

وَيَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَٰئِكَ

اور امیدیں دلاتا ہے ان کو اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا ﴿۱۲۰﴾ یہی لوگ

مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾

نہکانہ ان کا جہنم ہے اور نہیں وہ پائیں گے اس سے جلتے بناہ ﴿۱۲۱﴾



5

۱۲۲. اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابدالآباد رہیں گے، یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔

۱۲۳. حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے، جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔

۱۲۴. جو ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شکاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔

۱۲۵. باعتباردین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔

۱۲۶. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

۱۲۷. آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے! خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو، بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ  
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کئے اچھے۔ نیک عنقریب ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ  
بہتی ہیں سے ان کے نیچے نہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ وعدہ ہے اللہ کا

حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ  
سچا اور کون زیادہ سچا ہے سے اللہ بات میں ۱۲۲: نہیں ہے ساتھ تمہاری آرزو کے

وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ  
اور نہ ساتھ آرزو کے اہل کتاب کی جو کوئی عمل کرے گا برا جزا دیا جائے گا ساتھ اس کے

وَلَا يَجْدَلُ ۚ وَمَنْ دُوِّنَ اللَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ  
اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے کوئی سوا اللہ کے کوئی دوست اور نہ مددگار ۱۲۳: اور جو

يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
عمل کرے گا میں سے نیک کاموں سے مرد یا عورت اور وہ مومن ہو

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ  
تو یہی لوگ وہ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر ۱۲۴: اور کون

أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ  
زیادہ اچھا ہے دین میں اس سے جو سونپ دے۔ سیر کردے۔ چہرہ اپنا اللہ کے لئے اور وہ نیکوکار ہے اور پیروی کرے

مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَاللَّهُ  
طرفے کی ابراہیم کے یکسو ہو کر اور بنالیا اللہ نے ابراہیم کو دوست ۱۲۵: اور اللہ ہی کے لئے ہے

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
جو کہ ہے میں آسمانوں اور جو میں ہے زمین اور ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے

مُحِيطًا ﴿١٢٦﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ  
احاطہ کرنے والا۔ گھیرنے والا ۱۲۶: اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے میں عورتوں کے معاملے دیجئے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو

فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ  
ان عورتوں کے اور جو بڑھا جاتا ہے تم پر میں سے کتاب کے بارے میں یتیم لڑکیوں

الَّتِي لَا تُوْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكَحُوْهُنَّ  
وہ جو نہیں تم دینے ان کو جو لکھا گیا۔ مقرر کیا گیا ان کے لئے اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کرو ان سے

وَالْمُسْتَضَعِّفِيْنَ مِنَ الْوَالِدٰنِ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ  
اور کمزور سمجھ جانے والے میں سے بچوں اور جو بھی اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لئے انصاف پر

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ﴿١٢٧﴾  
اور جو بھی تم کرو گے میں سے نیکی تو بیشک اللہ ہے اس کو جاننے والا ۱۲۷:

۱۲۸. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کرلیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہتر چیز ہے، طمع ہر ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیز گاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔

۱۲۹. تم سے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو اس لئے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھڑ لٹکتی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بیشک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔

۱۳۰. اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ہے۔

۱۳۱. زمین اور آسمانوں کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دئے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بہت بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔

۱۳۲. اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی اور اللہ کارساز کافی ہے۔

۱۳۳. اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو! وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔

۱۳۴. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو (یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت (دونوں) کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔

وَإِن أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ

اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو سے اپنے شوہر بدسلوکی۔ زیادتی یا بے رخی تو نہیں کوئی گناہ

عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

ان دونوں پر کہ وہ دونوں اصلاح کرلیں آپس میں صلح کرنا اور صلح بہتر ہے

وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

اور موجود رکھا گیا نفسوں میں بخل کو اور اگر تم احسان کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بیشک اللہ تعالیٰ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا

ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے ﴿١٢٨﴾ اور ہرگز تم استطاعت رکھ سکتے یہ کہ تم عدل کرو

بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا

درمیان عورتوں کے اور اگر تم حرص کرو تو نہ تم مائل ہوجاؤ ہوری طرح مائل ہوجانا کہ تم چھوڑ دو اس کو

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

معلق کی طرح۔ مانند لٹکتی ہوئی اور اگر تم اصلاح کرو اور تم تقویٰ کرو تو بیشک اللہ تعالیٰ ہے

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاَ مِنْ سَعَتِهِ

بخشنے والا مہربان ﴿١٢٩﴾ اور اگر وہ دونوں الگ ہوجائیں غنی کرے اللہ ہر ایک کو سے اپنی وسعت

وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

اور ہے اللہ تعالیٰ وسعت والا حکمت والا ﴿١٣٠﴾ اور اللہ ہی جو میں ہے آسمانوں

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

اور جو کچھ میں ہے زمین اور البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب سے

قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ

تم سے پہلے اور تم کو بھی کہ ڈرو اللہ سے اور اگر تم کفر کرو گے تو بیشک اللہ ہی کے لئے ہے

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

جو میں ہے آسمانوں اور جو کچھ میں ہے زمین اور ہے اللہ بے نیاز۔ غنی تعریف والا

﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

﴿١٣١﴾ اور اللہ ہی جو میں ہے آسمانوں اور جو کچھ میں ہے زمین اور کافی ہے اللہ کارساز کے لئے ہے

﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ

﴿١٣٢﴾ اگر وہ چاہے وہ لے جائے تم کو اے لوگو اور لے آئے دوسروں کو اور ہے

اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے قدرت رکھنے والا ﴿١٣٣﴾ جو کوئی ہے ارادہ رکھتا ہے۔ ثواب دینا کا ثواب ہے اللہ کے

ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

ثواب دینا کا اور آخرت اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ﴿١٣٤﴾

۱۳۵. اے ایمان والو! عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ داروں عزیزوں کے، وہ شخص مال دار ہو یا فقیر ہو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی کی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔

۱۳۶. اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں ایمان لاؤ! جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔

۱۳۷. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لاکر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ ۱۳۸. منافقین کو اس امر کو پہنچا دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب یقینی ہے۔

۱۳۹. جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ (تو یاد رکھیں کہ) عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

۱۴۰. اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو! جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقین کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔

۳۴  
الحزن

۱۳۵. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو بوجاؤ قائم ہونے والے ساتھ انصاف کے گواہی دینے والے اللہ کے لئے اور

عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا

تمہارے نفسوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے اگر وہ ہوں گے مال دار یا محتاج

فَاللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهِمَا فَلَآ تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدُوْا وَاِنْ تَلُوْا

تو اللہ زیادہ خیر خواہ تونہ تم پیروی کرو خواہشات کی ناکہ تم عدل کر سکو اور اگر تم موز دو گے

اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿۱۳۵﴾ يٰۤاَيُّهَا

یا اعراض برتو گے تو بیشک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ۱۳۵: اے لوگو

الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ ۗ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ

جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر جو اس نے نازل کی

عَلٰى رَسُوْلِهٖٓ ۗ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ

پر اپنے رسول اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی اس سے پہلے اور جو کوئی کفر کے کا

بِاللّٰهِ وَمَلَآئِكَتِهٖٓ وَكِتٰبِهٖٓ ۗ وَرَسُوْلِهٖٓ ۗ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ

اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا تو تحقیق وہ بہتک گیا

ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿۱۳۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ءَامَنُوْا ثُمَّ

بہتکنا دور کا ۱۳۶: بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لاؤ پھر

كَفَرُوْا ثُمَّ اَزْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ

کفر کیا پھر بڑھ گئے زیادہ کفر میں نہیں ہے اللہ ناکہ بخشی دے ان کو اور نہ ہدایت دے ان کو

سَيٰلًا ﴿۱۳۷﴾ بَشِيْرُ الْمُنٰفِقِيْنَ اَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿۱۳۸﴾ الَّذِيْنَ

راستے کی ۱۳۷: بشارت دے دو منافقوں کو پھر اس کے لئے عذاب ہے دردناک ۱۳۸: وہ لوگ

يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَّبَتَّغُوْنَ

جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست سوا مومنوں کیا وہ تلاش کرتے ہیں

عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ﴿۱۳۹﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلٰىكُمْ فِي

ان کے پاس عزت تو بیشک عزت اللہ کے ساری کی ساری ۱۳۹: حالانکہ تحقیق نازل کیا تم پر میں

الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ ءَايٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

کتاب (میں) یہ کہ جب سنوتم آیات کو اللہ کی کفر کیا ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا تونہ

تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۗ اِنَّكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ

تم بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ مشغول ہوجائیں میں ایک بات (میں) اس کے سوا بیشک تم تب ان کی مانند ہو

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ﴿۱۴۰﴾

بیشک اللہ جمع کرنے والا ہے اور کافروں کو میں جہنم میں سب کے سب کو ۱۴۰:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا

وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارا بھراگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح سے اللہ کی طرف وہ کہتے ہیں

أَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا

کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ اور اگر ہو کافروں کے لئے کوئی حصہ وہ کہتے ہیں

أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ

کیا نہیں ہم غالب آئے لگے تھے تم پر اور ہم بجا رہے تھے تم کو سے مومنوں سے بس اللہ فیصلہ کرے گا

بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

تمہارے درمیان کے دن۔ قیامت اور بزرگ بنائے گا اللہ کافروں کے لئے بر مومنوں

سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا

کوئی راستہ ۱۴۱: بیشک منافقین دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو اور جب

قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ

وہ کھڑے طرف نماز کے کھڑے ہوتے سستی کے مارے دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو اور نہیں یاد کرتے وہ بیوتے ہیں

اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لِآلِي هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى

اللہ کو مگر بہت تھوڑا ۱۴۲: تذبذب میں ہیں درمیان اس کے نہیں طرف ان لوگوں کے اور نہ طرف

هَؤُلَاءِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

ان لوگوں کے اور جس کو بہنکا دے اللہ تو بزرگ تم پاؤ گے اس کے لئے کوئی راستہ ۱۴۳: اے لوگو۔ جو

ءَامِنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

ایمان لائے ہو نہ تم بناؤ کافروں کو دوست سوا مومنوں

أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ

کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ کے لئے اپنے خلاف کوئی دلیل کہہم کہلی ۱۴۴: بیشک

الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

منافق میں طبقہ سب سے نچلے سے ایک اور بزرگ تم پاؤ گے ان کے لئے کوئی مددگار

﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْحَابُ حَسْبٍ وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا

۱۴۵: مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو اور خالص کر لیا

دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ

اپنا دین اللہ کے لئے توبہی لوگ ساتھ مومنوں کے ہیں اور عنقریب دے گا اللہ

الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

مومنوں کو اجر بڑا ۱۴۶: کیا کرے گا اللہ ساتھ تمہارے عذاب کے۔ تمہیں عذاب دے کر

إِن شَكَرْتُمْ وَعَآمَنُتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

اگر شکر ادا کیا تم نے اور ایمان لائے تم علم والا۔ جائز والا ۱۴۷:

۱۴۱۔ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں اور اگر کافروں کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو (ان سے) کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا، پس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا۔

۱۴۲۔ بیشک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کابلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔

۱۴۳۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف، جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لئے کوئی راہ نہ پائے گا۔

۱۴۴۔ اے ایمان والو! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو۔

۱۴۵۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے۔

۱۴۶۔ ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لئے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔

۱۴۷۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔